

Translate the following passage into English, keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

جسوں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہرگز نہیں اور یہ کبھی بھی ہندوستان کا ٹوٹا حصہ نہیں رہا۔ جسوں و کشمیر کا علاقہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک متنازعہ علاقہ ہے۔ خطابرت، چرب زبانی اور لٹاگی سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ پاکستان کا حصہ ہے جتنا کہ یہ کبھی ہندوستان کا ہو سکتا ہے۔ جسوں و کشمیر کے عوام گوشت پوست، خون، زندگی ہر بات میں پاکستانی عوام کا جز ہیں۔ لٹائی، سرتختی، جھڑائی غرضیکہ ہر اجبار سے اور ہر حیثیت سے وہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں۔ ہم ایک ہزار برس تک جنگ کریں گے اور یہ دفاعی جنگ ہوگی۔ میں نے یہ بات سلامتی کو نسل کو ایک سال پہلے اس وقت بتادی تھی۔ جب یہ نسل اپنی تمام دلتائی اور تمام قوت کے باوجود ہمارے حق میں قرار دار منظور کرنے پر تیار نہ تھی پچھلے سال بھی سلامتی کو نسل نے یہی سمجھا کہ ہم گزے مردے اکھاڑ رہے ہیں اور دلتائی پر وہ پیکینڈے کی خاطر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سولہ کروڑ عوام اپنے عہد اور وعدوں سے کبھی بھی روگردانی نہیں کریں گے۔

Jammu and Kashmir is and was never a inseparable part of Hindustan. It is a disputed piece of land between Pakistan and Hindustan. The facts cannot be changed with mere words and speeches. Kashmir is a way more part of Pakistan than it can ever be of Hindustan. The people of Kashmir are an integral part of people ~~that~~ of Pakistan by their flesh and blood. They are our brothers through any definition of culture, history and geography. We will fight a war for a thousand years and it will be defensive war. I aware the Security Council a year ago, when the Council with all its wisdom and strength refused to pass the resolution in favour of Pakistan. Security Council took it as an internal propaganda even last year. However, world should be aware that the sixteen crore population of Pakistan would never turn their back to their promises.